



**YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN
DEBATES**

OFFICIAL REPORT

Saturday, June 23, 2012
(04th Session)
No.04
(Nos.04-05)

CONTENTS

	Pages
1. Recitation from the Holy Quran.....	1
2. Resolutions:	

YOUTH PARLIAMENT OF PAKISTAN

DEBATES

Saturday, June 23, 2012

The Youth Parliament of Pakistan met in the Sikandar Hall, Hotel Best Western, Islamabad, at nine in the morning with Madam Deputy Speaker (Sara Abdul Wadood Khan) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran by Jamal Naseer Jami.

Madam Deputy Speaker: Mr. Muhammad Umar Riaz, Youth Minister for Law, Parliamentary Affairs and Human Rights would like to present Human Rights Policy.

Mr. Muhammad Umar Riaz: Thank you Madam Speaker. The Ministry of Law, Parliamentary Affairs and Human Rights wants to express profound gratitude to all the members of the Youth Parliament for sending in their recommendations for drafting this National Youth Human Rights Policy, 2012.

Madam Speaker! Government has tried to cover each and every area of human rights violation which is taking place in Pakistan. We are currently aware of the dismal condition of women rights, we are currently aware of the consistent human rights violation against the children. We are consistently aware of the law and order situation which is on the deteriorating level. Now, what we need to do? In our policy statement instead of producing a certain background, instead of more focusing on a certain background, we were more focused on suggestions. We divided the major human rights issues in Pakistan into the various categories and proposed certain level of suggestions in this regard.

What we have done Madam Speaker. We say that as far as the child rights are concerned. Child rights and women rights are purely the provincial issues and appreciate the efforts of the Child Protection And Welfare Bureau but we believe that the current juvenile system in Pakistan is not up to the mark and believe that the separate hearing for juvenile cases should be ensured, which has not yet been ensured. For women empowerment, the National Assembly and the Senate have done incredibly a great job. Various different enactments relating to women have been made like Anti Acid Throwing Act, the Parliament Act, on the Establishment of National Commission for Women on the status women was a very profound and important step in this regard.

Furthermore, the human trafficking is an important issue which has been dealt with specifically in our policy. We have detailed as we stated previously that we have focused our attention on the protection of the rights of the journalists because journalists, in our view, are very important part of the State. Being the 04th pillar of the State, they need specific protection and for the protection we intend to move a detailed Bill in the coming days, in the last day of this Parliamentary session.

On the Health, we also believe that this power has also been devolved to the provinces after the 18th Amendment but we believe that still the responsibility lies with the State to ensure that the 04 provinces are working in accordance with the International Health Charter signed by the Government of Pakistan.

Religious Minority issues which was not previously included in our policy. On the request of Mr. Sagar Katija, we definitely wanted to ensure that the minority rights are equally protected and we have emphasized on the specific measures which have been described in this particular issue which also calls for the establishment of the National Commission for the Protection of Rights of Minorities but we have done more. We have introduced also the concepts of the Housing and Environment issues. Environment issue is a very important issue and after the 18th Amendment, the debate is still on that keeping in view our external/international obligation, whether it should be the part of the provincial legislative list or not.

Furthermore, we have first time touched a very sensitive issue which is prevalent in Pakistan. We have touched the issue of transgender human rights violation against the transgender people, transsexual people in Pakistan which is considered to be a very sensitive issue. This point was also not included initially in the policy but on the suggestion made by an honourable Youth Parliamentarian, we have included the said points that it is the responsibility of the state to deal with the consistent human rights violations which is prevalent among the masses of Pakistan against the transgender people.

Madam Speaker! by ensuring all this, I want to say that the policy is a complete of all the human rights issues which are currently prevalent in Pakistan and I want to ensure all those who are sitting on the Parliamentary benches that all the recommendations which were present in the form of the Resolution during the 1st, 2nd and 3rd day are already present in the National Human Rights Policy Statement.

Madam Speaker! let me tell you, instead of going in deep into the historical background, let me tell you only one thing that we would definitely appreciate the step of the Government of Pakistan to establish the National Commission for Human Rights which is an important fundamental milestone in the history of Pakistan. This Commission should have been established much earlier because Pakistan was an international signatory in this regard that we would establish such a Commission in Pakistan. In India, such Commission was established in early 1990s and the human rights violations in India are much less as compared to those in Pakistan.

Madam Speaker! in the appendix we have also included a Bill relating to the journalists which would ensure that their rights are protected, their lives are safe and then can work incredibly in an environment which is safe, even their families are targeted in this regard, that their families do not become a victim of the external aggression because we believe that the media, being the 4th pillar of the State, is playing a pivotal role in the uplift of democracy, in the protection of democracy, in the protection of judicial system of Pakistan.

We have also dealt with the hot topic of Balochistan and Karachi. We are obliged to Mr. Najeeb Abid Baloch, for their valuable recommendations in this regard and it must have been shown that the prime responsibility, the prime focus of the present Government is and has been on the protection of the rights in Balochistan because in all three sessions we focused on Balochistan.

Madam Speaker! in Karachi, the deteriorating situation has been dealt with specifically. We are determined to establish a Commission which would be focusing on whether these human rights violations

which are happening in Karachi are due to the political causes and how those political causes are to be corrupted, we have dealt with that accordingly.

In the end Madam! I would like to state that in the coming days, both sides of the Parliament, the Opposition benches and the Treasury benches will be introducing certain legislative business, certain Bills in this regard, which would ensure the protection of human rights in Pakistan.

Madam Speaker! let me briefly give a historical point of view that despite the present status, the present negative status of human rights in Pakistan. We are pretty much sure that one day Pakistan would become a country in which human rights are being considered of paramount importance and they will be given the first preference and Pakistan will become a number one country in which human rights are protected with full fundamental point of view.

میڈم 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا گیا جو اسلامی فلاحی ریاست ہوگا۔ ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا گیا کہ انسانی حقوق کا علم بردار ہوگا۔ ایک ایسا ملک جس میں اسلام کا قلع بننے کی تمام صلاحیت موجود تھی۔ ایک ایسا ملک جو عورتوں، بچوں اور مظلوموں کے تحفظ کا علم بردار تھا۔ آج اگر ہم ملک کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو خدا کی پناہ کہ ہم جہالت کے انتہائی تلخ اندھیروں میں گھر چکے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اور ہماری حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں مل کر اس مجلس شوریٰ برائے نوجوانان کو ایک ایسا platform بنا سکتے ہیں جو ایک concrete solution لے کر آسکے کیونکہ آج کی صورتحال دیکھ کر جو ایک شعر برملا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ یہ ہے،

عجب رسم چلی ہے چارہ گروں کی محفل میں

لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں

غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو

امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں

شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you Mr. Muhammad Umer Riaz. Mr. Muhammad Zafar Siddique, Mr. Muhammad Waqar, Mr. Naseeb Akhtar Channer, Mr. Amir Abbas, Mr. Gohar Zaman, Mr. Saleem Khan and Mr. Gulfam Mustafa would like to move the Resolution. I would ask Mr. Muhammad Zafar Siddiqui to read out the Resolution.

Mr. Muhammad Zafar Siddique: I would like to move that this House is of the opinion that keeping in view the disturbing rise in the cases of child molestation, child labor and child marriages, immediate actions must be taken to stop such violence by requiring speedy criminal trials, issuing protection orders, creating grass-root level protection committees, and punishing the offenders with long jail terms and heavy fines”.

میڈم سپیکر! پاکستان کا آئین child labor and child marriages کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ Constitution of Pakistan کے Article 11 Child Labor سے روکتا ہے جبکہ Child Marriages Act, 1929 سے منع کرتا ہے۔ اس Act کے مطابق male کی عمر اگر 18 سال اور female کی عمر

16 سال سے کم ہو تو ایسی شادیوں کو child marriages consider کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں child molestation سے متعلق cases کو register کروانے کے لیے Pakistan Penal Code کے Section 511, 376(B) and 361(A) کے تحت آپ cases register کروا سکتے ہیں۔

جناب سپیکر! پاکستان میں 1996 میں جتنے بھی بچے چار سال اور پندرہ سال کی عمر کے درمیان تھے ان میں سے 25% child labor میں involve تھے۔ 2012 میں جو survey ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان میں 30 million بچے چار اور پندرہ سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ جن میں سے 8 million یعنی 27% child labor میں involve ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جن بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم اس بے رحم ملک میں رہتے ہیں جہاں جن بچوں کی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی ان کو ہم نے مزدور بنا دیا۔ دوسری طرف جو بچے child labor involved ہیں ان کو نہ تو اچھا ماحول ملتا ہے، نہ اچھی خوراک ملتی ہے جس وجہ سے ان میں جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

جناب سپیکر! جتنے بچے child labor involved ہیں ان میں سے 42% تو کبھی سکول گئے ہی نہیں باقی 58% سکول گئے لیکن یا تو ان کو نکال دیا گیا یا انہوں نے خود چھوڑ دیا۔ پاکستان میں 30% شادیاں child marriage کے زمرے میں آتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر روز 25000 لڑکیاں جن کی عمر 16 سال سے کم ہے وہ دلہن بنتی ہیں۔

ایک NGO ساحل کے مطابق پاکستان میں 2393 cases child molestation per annum سے related register ہوتے ہیں۔ جناب سپیکر! یہ معاملات پاکستان کی نئی نسل کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر political will اور acknowledgement کے ساتھ ان کو solve کرنا چاہیں تو بہت آسانی solve کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان بناتے ہوئے نئی نسل کے لیے روشن مستقبل کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا قائد اور اقبال نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں ہم اپنی نئی نسل کو جان، تعلیم، عزت اور مال کا تحفظ نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں قانون موجود ہونے کے باوجود 80 لاکھ بچے مزدوری کر رہے ہیں۔ 30% شادیاں marriage کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو harassment کرنے کے cases register ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنی نئی نسل کو تحفظ نہیں دے سکتے؟

میڈم سپیکر! proper criminal trials کے ذریعے grass root level پر protection committees بنانی چاہئیں اور قصوروار کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ شکریہ۔
میڈم ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ جناب محمد وقار صاحب۔

جناب محمد وقار: شکریہ میڈم سپیکر۔ ظفر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2009-10 میں child molestation کے سب سے زیادہ cases register کیے گئے، جن میں سے صرف 38 کے decisions آئے ہیں۔ اس زمرے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ court میں کچھ ایسی reforms لانی چاہئیں، judicial system میں ایسی reforms آنی چاہئیں جن میں speedy trials کو promote کیا جائے۔ مزید اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چند issues ہماری societies کے ایسے ہیں جن پر لوگ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ issues surface پر نہیں آئیں گے، وہ issues solve نہیں ہوں گے اور issues

solve ہونا ہمارے لیے ایک بہتر society کو promote کرنے کے مترادف ہے۔ اسے میں way forward direct دینا چاہوں گا کہ primarily level پر physical education کے courses introduce کرائے جائیں یعنی بچوں کو aware کیا جائے اپنی safety کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے قوم کے 60 ارکان سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد پائے جانے والے بچوں کو اس بارے میں educate کیا جائے، child labor کو discourage کیا جائے اور child marriages کو بھی discourage کیا جائے۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ سیپ اختر چنڑ صاحبہ۔

محترمہ سیپ اختر چنڑ: شکر یہ میڈم سپیکر۔ دنیا میں courts کا کام ہوتا ہے human rights violation کے خلاف action لینا لیکن ہمارے ملک میں courts خود human rights کو violate کرتے ہیں۔ Cases کو اتنی طویل مدت تک کھینچا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ complainant فیصلے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ لوگوں کو courts میں بلا کر صرف تاریخیں دی جاتی ہے۔ اگر کوئی child abuse کا case آتا ہے تو lawyer سب کے سامنے جان بوجہ کر اتنے embarrassing questions پوچھتے ہیں کہ انسان خود شرمندگی سے مر جاتا ہے۔ 2009 میں چیف جسٹس نے ایک judicial policy introduce کی تھی جس میں family laws, particularly, focusing on khula, انہوں نے یہ suggest کیا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر تمام cases کو wind up کرنا چاہیے۔ ایسی policies آئی چاہیں تاکہ انسان جب case کرتے تو اس کو courts میں انصاف ملے، تاریخ نہیں۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عامر عباس طوری صاحب۔

جناب عامر عباس: بسم الله الرحمن الرحيم۔ شکر یہ میڈم سپیکر۔ میڈم سپیکر! آج بھی اس معصوم مظہر کی تصویر میرے چہرے کے سامنے ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تو وہ ایک ہاتھ سے گاڑی کے شیشے بھی صاف کر رہا تھا اور فٹ پاتھ پر اس کی کتاب بھی پڑی ہوئی تھی۔ بے شمار اور ان گنت ایسی مثالیں ہیں اگر ہم child molestation کے حوالے سے لیں یا child labor کے حوالے سے لیں یا child beggar کے حوالے سے لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کوئی خاص توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ بہت سارے seminars, workshops اور بہت سارے ایسے programs ان عنوانات پر ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں ملک میں لیکن یہ جو ہمارے ملک کے معمار ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس طرف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا صحیح role identify کریں کہ what should be the role and how can we promote the role of the youth in our society. یعنی ان کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہو گا؟ ہمارے علم میں ہے کہ ہر بچے کی اول درس گاہ آغوش مادر ہے لیکن اس کے بعد بعض جگہوں پر بعض ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ان کو بے راہ روی پر یا ایک صراط مستقیم کے راستے پر چلانے کی بجائے ان کو دوسرے راستے پر چلاتے اور گامزن کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم ان وجوہات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ میڈم سپیکر! آپ فرماتی ہیں کہ آپ way forward تو اسی ایوان میں موجود کچھ معزز اراکین نے یہ طے کیا کہ child labor and child beggars کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ ایک فورم بنائیں اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اس کو دے سکیں، constructive youth of Pakistan

کے نام سے دے سکیں۔ اس پر ہم ابھی کچھ سوچ رہے ہیں اور ایک consensus develop کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہم child labor, child beggars and under-privileged children کو ہم ایک way forward دیں تعلیم کے حوالے سے اور ان کو ہم support کریں، ان کو ہم help کریں اور بالکل اپنے چھوٹے بھائی اور بچوں کی طرح۔ اگر ہم ایک بچے کی بھی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں تو یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ ان کے future کو سربانے والی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود سے کیسے شروع کریں۔ Charity begins at home. شاعر کہتا ہے،

بات کرنے پہلے زبانی کٹیں
 خون ناحق سے دھرتی کو سینچا گیا
 عدل و انصاف کے نام پر بار بار
 دار پر بے گناہوں کو کھینچا گیا
 چند سکوں کے عوض مقدر بکے
 قوت زندگی کو خریدا گیا
 کجکلاہوں کی سچ دھج سلامت رہی
 خون بہتا رہا دور چلتے رہے
 جن کے دم سے شبستانِ عشرت سجے
 ایک پل کے لیے ناسکوں پا سکے
 عصمت سر برہنہ پریشان ہے
 کوئی ان کے بھی دیکھیں کہ ارماں ہیں کیا
 یہ جو گلیوں میں پھرتے ہیں بچے فقیر
 یہ بھی یوسف ہیں اس دور کے بے گماں
 ان کو اس دور کی مفلسی کہا گئی
 حسن یوسف زلیخا نے اپنا لیا
 آج اس دور میں ایسے ماحول میں لاکھوں یوسف بکے
 ایک یوسف کو روتے ہو تم دو تو

یقین کریں میڈم سبیکر! آج جو واقعات ان سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنا بھائی یا بیٹا بنا کر ان کی مدد کریں بہت سارے ایسے شریک عناصر ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور کل بھی اس پر کافی بات ہوئی لیکن جب بھی کوئی child molestation کا case ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی بتیسی نکال کر ہنستے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہی کام میرے چھوٹے بھائی علی کے ساتھ ہوتا تو اس وقت میرے دل پر کیا گزرتی، اس وقت میرے گھر والوں کے دل پر کیا گزرتی اور ہم کتنا seriously اس کو لیتے۔

میں آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ ہماری جو amendments propose ہوئی ہیں یا کل سے جتنی بھی resolutions لائی گئی ہیں، اس کو باقاعدہ ایک press release کے ذریعے ہمیں مطلع کرنا چاہیے کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہییں اور یہ جو child molestation کے حوالے سے جو laws ہیں ان میں amendments ہونی چاہییں۔ بہت شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی جناب گوہر زمان صاحب۔
جناب گوہر زمان: میڈم سپیکر! اگر مجھے ایک یا دو سپیکرز کے بعد موقع دیا جائے تو مہربانی ہوگی۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم جناب سلیم خان صاحب۔ موجود نہیں ہیں۔ جناب گلغام مصطفیٰ صاحب، موجود نہیں ہیں۔ جناب عتیق الرحمن صاحب۔

جناب عتیق الرحمن: میڈم سپیکر! ظفر بھائی نے اور چند دوسرے بھائیوں نے مل کر جو ایک resolution پیش کی ہے، یہ ہے تو بہت ہی ایک گھمبیر issue لیکن پھر بات آ جائے گی، انہوں نے بتا بھی دیا کہ اس کے حوالے سے قانون تو موجود ہے لیکن بات پھر implementation کی آگئی کہ اس پر عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ غربت کروا رہی ہے۔ جب تک اس ملک سے غربت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ child labor, child marriages and child molestation ختم نہیں ہوں گے۔ اگر غربت ختم کر دی جائے تو آج پھر سے علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد بن قاسم جیسے لوگوں کے آنے کی پھر سے امید ہے۔

میڈم سپیکر! آخر میں صرف ایک شعر میں سارا کچھ کہوں گا،

غریبوں کے لیے انصاف کے در بند ہیں دیکھو

امیروں کے لیے آئین میں ترمیم ہوتی ہے

قانون ہے اس کے لیے لیکن جب غریب کا بچہ قابو آتا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور امیر کے بچے کے لیے کوئی لگام نہیں ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ مہرین سیدہ صاحب۔

محترمہ مہرین سیدہ: شکریہ میڈم سپیکر۔ میں اس میں بس ایک چھوٹی سی بات add کرنا چاہوں گی۔ یہ resolution بہت اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی elaboration میں چلے جائیں تو جہاں پر بات آتی ہے child marriages کی تو ہم specially یہ لڑکیوں کے لیے کہتے ہیں کہ شادی جلدی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر میں تھوڑا سا past میں جا کر دیکھوں اور آپ لوگ بھی ایک دو generations پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمارے جو grand parents تھے جن کی شادیاں ہوئی ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ successful شادیاں ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شادیاں اگر کسی لڑکی کی پندرہ سال یا سولہ سال میں ہوتی ہے تو that is not an issue جس پر NGOs شور مچائیں کیونکہ وہ زیادہ

کامیاب ہوتی ہیں as compared to that جن بچوں کی late شادیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہمیں بہت سے جرائم کی شرح میں زیادہ اضافہ نظر آتا ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ محترمہ ایلینہ نوروز علی صاحبہ۔

محترمہ ایلینہ نوروز علی: شکریہ میڈم۔ میں اس resolution کو پوری طرح سے support کرتی ہوں۔ Child marriages کے لحاظ سے بولنا چاہوں گی کہ child marriages کچھ خاندانوں میں culture ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو parents کے mindset کو بدلنا ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے mindset کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر کچھ اقدامات حکومت لیتی ہے تو that would not be the solution جہاں تک child molestation کی بات ہے، یہاں پر میں نے کچھ cases کو ذاتی طور پر دیکھا ہے جہاں پر بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو وہاں پر کیا اقدامات کیا ہوں گے۔ یعنی جب بچے کو خود پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں پر حکومت کیا کرے گی۔ اس کے لیے کچھ ایسا workable ہونا چاہیے جو صرف theory میں کامیاب نہ ہو بلکہ practically بھی کامیاب ہوں۔ محترمہ سیپ جو فرما رہی تھیں کہ speedy criminal trials نہیں ہوتیں، لوگ مر بھی چکے ہوتے ہیں تب بھی ان کے cases ختم نہیں ہوتے۔ لہذا اس پر بھی زیادہ غور کیا جائے۔ یہاں پر جو grass root level protection کی جو بات کی گئی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم بیٹھ کر بول تو دیں گے کہ ہم اس طرح کے اقدامات لیں گے جس سے people are going through this، لوگ بولیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اصل معاشرے میں بیٹھ کر بات کریں گے تو وہ لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے گھر کی حقیقت کو اس طرح سب کے سامنے واضح کر دیں کیونکہ وہ لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ جناب گوہر زمان صاحبہ۔

جناب گوہر زمان: شکریہ محترمہ سپیکر صاحبہ۔ یہ resolution کافی detail میں discuss ہو چکی ہے لیکن چند point ایسے ہیں جو ابھی تک discuss نہیں ہوئے۔ پہلے میں بات کرتا چلوں کہ Opposition benches سے بات آئی کہ پچھلے دور میں child marriages successful ہوا کرتی تھیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا child marriage کس culture میں ہوئی ہے۔ اگر تو مرضی سے ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو principally دیکھیں تو یہ 18 سال سے کم تو ویسے بھی allow نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں maturity کا factor ہونا ضروری ہے۔ ایک right of education ہوتا ہے۔ جب 14، 15 یا 16 سال کی بچیوں اور بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے، عمومی طور پر بچیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 14 یا 15 سال کی عمر میں ان کی تعلیم تو ابھی شروع ہوئی ہوتی ہے، وہ تو ابھی higher school میں بھی نہیں پہنچے ہوتے تو ان کا وہ right of education ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو knowledge کی کمی نظر آتی ہے پچھلے generation میں، جس کی وجہ سے جب پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کی training بھی اتنی اچھی کرتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود ہی انسان کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔

Child molestation پر میں ایک point add کرنا چاہتا ہوں کہ child molestation جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، unfortunately وہ سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ مذہبی مدارس میں دیکھی جاتی ہے۔

کیونکہ وہاں پر کوئی check and balance نہیں ہے۔ وہاں پر آئے دن ایسے cases report ہوئے دیکھتے ہیں جن میں مدارس کا نام بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی check and balance نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اپنے بچے مدارس میں بھیجتے ہیں وہ اتنے well to do نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ Majority cases میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال دیتے ہیں۔ جہاں پر ان بچوں کا خرچ وغیرہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور ان کو residence بھی دی جاتی ہے۔ ایسے case میں وہ اپنے بچوں کو پلٹ کر پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ ایک وہاں کے so called علما حضرات پر blind trust کرتے ہیں۔ لہذا ان پر ایک proper check and balance ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مدارس کی registration ہونی چاہیے اور وہاں پر security cameras وغیرہ لگائے جائیں۔ اس سلسلے کو بڑھانا چاہیے اور تمام مدارس کو register کرنا چاہیے تاکہ child molestation کو ختم کیا جائے۔

Child labor ایک وہ point ہے جس میں Pakistan one of the leading country لیکن اس سے پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ سیالکوٹ کی جو sport goods industry ہے that is run on the child labor basically. اس child labor کو ختم کرنے سے نہ صرف ہمارے human rights protect ہوتے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہمارا economic loss ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں وہ بھی اس سے کم ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ اشنا احمد صاحبہ۔

محترمہ اشنا احمد: شکریہ میڈم سپیکر۔ میں صرف child labor کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گی کہ child labor ختم کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ child labor invisible ہے۔ ہمارے پاس data نہیں ہے۔ پہلے ہمیں data collect کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک data ہے کہ 2 to 19 million children child labor میں ہیں۔ یہ بہت ہی wide variation ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں data collect کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آخر ہم نے کتنا child labor ختم کر لیا ہے اور کتنا ختم کرنے کی اب ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ ہماری cottage industries بہت promote کرتی ہیں child labor کو۔ جیسے کہ ہماری carpet weaving industry ہے اس میں 90% looms آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ جو گھروں میں looms ہوتے ہیں یہ families run کرتی ہیں۔ اس طرح families اپنے بچوں سے بھی کام کراتی ہیں اور خود بھی کام کرتی ہیں۔ اس طرح ان بچوں کا right of education بھی ختم ہو جاتا اور ان پر کافی physical and mental pressure بھی ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں points کو بھی consider کرنا چاہیے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمر ریاض صاحب۔

Mr. Muhammad Umar Riaz: Thank you Madam Speaker. As very fruitful discussion has already taken place, let me made some few clarifications here that one of the honorable members said here that the current data is not available as far as the child labor is concerned and that is so true and we have included that in our policy that the data regarding the exact number of children involved in the child labor, the children who become the victims of the child molestation should be taken care of and should be made

according to the international standard and statute so that we can come to the exact status of what is present in Pakistan.

Furthermore, it has been stated that there are flaws in the judicial system of Pakistan and the legal community exploits the cases and the ethical issue also gets involved in that. That is also really true. Let me tell you that after the apparent judicial activism after the restoration of the judiciary, the Supreme Court and High Courts, as I always say, have seen the improvements and it has been witnessed that their performance, their functioning have been improved to a greater extent but in the lower courts where the child molestation cases are actually taking into account. They are not being dealt with specifically because the lower court cases are neither recorded nor debated and quoted. So, it is a need of the hour that we need to ensure some reforms in the judicial system of Pakistan so that we can come towards a solid mechanism and the solid solution of this problem. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Opposition Leader, Mr. Fahad Mazhar Ali sahib.

جناب فہد مظہر علی: شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ۔ سپیکر صاحبہ! یہاں پر مظہر نام کے ایک بچے کی بات کی گئی ہے اور میں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں college کے ایک project میں beggars and child labor پر ایک documentary assign ہوئی۔ اس پر کام کرتے ہوئے بلال نامی ایک لڑکے سے میری بات ہو رہی تھی، اس سے میں interview کر رہا تھا اور وہ مجھے جواب میں کہہ رہا تھا کہ اس کے والد صاحب کافی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے اور اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے تایا پر آ گئی اور جب وہ لڑکا چلنے پھرنے اور بول چال کے قابل ہوا تو اس کے تایا نے اس سے کام کرنے اور بھیک مانگنے کے لیے کہا کہ کھانے پینے کے لیے پیسوں کا بندوبست وہ خود کرے گا کیونکہ میں تمہاری کفالت نہیں کر سکتا۔ اس بات کا المیہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم شاید پیدا اسلامی معاشرے میں ہوئے ہیں لیکن ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو صحیح طریقے سے adopt بھی نہیں کیا ہے اور نہ اس کے فلسفے کو سمجھا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے نبی پاک ﷺ پیدا ہونے سے پہلے یتیم اور کافی چھوٹی عمر میں مسکین ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے آخری سایہ بھی وفات پا گئے تھے تو ان کی کفالت ان کے چچا نے کی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہ صرف تربیت بلکہ ان کی پرورش اس طرح کی گئی جو کو مزید elaborate کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں پر enforcement کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا ہے human rights پر بات ہو رہی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ morally گر چکا ہے اور یہ اتنا گر چکا ہے کہ یہاں پر انسان کی زندگی چند روپوں کے عوض خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ لہذا ہمیشہ یہ بات کر دینا کہ something coming from the Government side ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ویسے تو اپنے آپ کو egalitarian کہتے ہیں۔ ہم کتنا یہ سوچتے ہیں کہ equality of opportunity سب میں ہونی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب شعور آ جائے گا تو تبدیلی بھی وقت کے ساتھ آ جائیں گی۔

Madam Deputy Speaker: Now, I put this Resolution to the House for voting.

(The Motion was carried.)

Madam Deputy Speaker: Consequently the Resolution is adopted. Now Mr. Tabraiz Mari and Mr. Jamal.

(interruption)

Miss Shaheera Jalil Albasit: Madam on a point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes please.

Miss Shaheera Jalil Albasit: Madam I would like to propose a resolution.

Madam Deputy Speaker: What is that about?

Mr. Muhammad Attique: Madam, I think it is not the appropriate manner because if something is on the Order of the Day, you cannot just interrupt like this.

Madam Deputy Speaker: What is that about?

Miss Shaheera Jalil Albasit: I will read out. "This House is of the opinion that the non-democratic practices for the derailing of the system in this Youth Parliament should strongly be discouraged and dealt with an iron hand."

(Desk thumping)

Madam Deputy Speaker: Yes, Leader of the Opposition.

جناب فہد مظہر علی: میڈم سپیکر! یہاں پر iron hand کی بات کی گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا iron hand استعمال کیا جائے گا؟ کیا کسی جرنیل کو لے کر آئیں گے یا کسی چیف جسٹس لایا جائے گا؟ میں خود اس resolution کی وضاحت کر دیتا ہوں جو لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی وقت کی کمی ہے اور Order of the Day میں بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں اور اس order of the day میں ہماری پارٹی کی آٹھ resolutions کو cut off کیا گیا اور ان کو نہیں لایا گیا۔

Madam Deputy Speaker: I think we should ask her that why she thinks that we need to bring it, then you can give your point of view. I will come back to you.

جناب فہد مظہر علی: میڈم سپیکر! اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ جو opportunity دی جاتی ہے، اس کی exploitation بھی ہوتی ہے اور بعد میں leadership کو embarrassing situation میں ڈالا جاتا ہے جہاں پر ان کو apologies مانگنی پڑتی ہے۔ لہذا ایسا system نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔

Madam Deputy Speaker: That is what she is talking about.

ایک معزز رکن: میڈم اگر کوئی اہم معاملہ ایوان میں discuss ہونا ہے جو order of the day میں شامل نہیں ہے تو وہ کوئی عام رکن نہیں لا سکتا۔ ایسے issue کو صرف قائد حزب اختلاف یا وزیراعظم صاحب خود اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے rules کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی وزیر اعظم صاحب۔

جناب محمد ہاشم عظیم (وزیراعظم یوتھ پارلیمنٹ): میڈم سپیکر! جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ اس کو discuss کیا جائے یا نہیں discuss کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس ایوان میں کسی جرنیل کو دعوت نہیں دے رہے بلکہ ایک جمہوری طریقے کو فروغ دے رہے ہیں اس کو یہاں پر discuss کر کے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Mr. Tabraiz Marri and Mr. Jamal Naseer Jami move the resolution.

Mr. Tabraiz Marri: Thank you madam Speaker. "This House is of the opinion that homicide in the name of honour is a heinous crime and the rise in the number of victims all across Pakistan is alarming. The House urges the law enforcing departments to act efficiently and bring the perpetrators to justice."

Madam Speaker! First of all I would like to inform the House that what exactly an honour killing is. The member of family of a social group or the other member due to the believe that the member has brought dishonour upon a family indulges into homicide and takes a life.

According to a very prominent report, approximately 80000 - یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ women were killed in honour killing all across Pakistan during the last decade. So, it is one of the very problem Laws کو enforce اور implement نہیں کیا جاتا۔ Laws کو implement کیوں نہیں کیا جاتا؟ Problem Laws کو implement اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ایسے کافی remote areas ہیں پاکستان میں جہاں پر آپ کے culture, ہماری society کا arbitrary system بھی ہے، وہاں پر بھی ان چیزوں کو legalize کر دیا جاتا ہے، although it is against the rules in PPC and in many other rules which cater to the human rights. Here my recommendation is that, we should ask the law enforcing agencies and not just one of them, all the law enforcing agencies operating in Pakistan, domain میں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو control کرنا ہے۔ ان کو urge کیا جائے کہ they should take strict measures and bring the perpetrators to justice. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب جمال نصیر جامی۔

جناب جمال نصیر جامی: شکریہ میڈم سپیکر۔ میڈم سپیکر! Honour killings کے حوالے سے یہ جو resolution ہے اس میں کچھ خاص تو نہیں کہنا چاہتے کیونکہ میرے ساتھی نے اس کو کافی حد تک elaborate کر دیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو honour killings ہوتی ہیں یہ ایک باقائدہ کلچر اور جرگے کے تحت ہوتی ہیں کیونکہ وہ decide کرتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ honour killings میں عموماً خواتین کو بہت زیادہ highlight کیا جاتا ہے لیکن کاروکاری تب ہی مکمل ہوتی ہے جب کارو کو بھی سزا ہو اور کاری کو بھی سزا ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہر حال یہ ایک پورا نظام موجود ہے اور یہ ایک ground reality ہے اور پتا چلتا ہے کہ جرگہ منعقد ہوا ہے اور اس نے honour killing پر سزا دی ہے۔ اصل بات تو implementation کی ہے کیونکہ laws تو پاکستان میں بنا لیے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی صورت میں ہمیں چیز کو باور کرنا چاہیے کہ honour killing جیسی سزا کوئی جرگہ یا کوئی پنچائیت نہیں دے سکتی۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ اشنا احمد صاحبہ۔

محترمہ اشنا احمد: شکریہ میڈم سپیکر۔ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ honour killing کو ختم کرنے میں کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ honour killing سامنے نہیں آ پاتی۔ لہذا کورٹ میں بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اصل وجہ ہمارے یہاں رائج قصاص اور دیت کا قانون۔ یہ

ایک اسلامی قانون ہے اور بالکل ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر honour killings خاندان کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو مارتا ہے honour killing کے لیے، ایک بھائی اپنی بہن یا ماں کو مارتا ہے یا جو بھی لیکن اپنے خاندان میں ہی، اپنے گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایک بیٹا اپنے باپ کو معاف کر سکتا ہے اپنی ماں کے قتل کے لیے یا ایک باپ اپنے بیٹے کو معاف کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے قتل کے لیے۔ لہذا یہ معاملہ ایک private sphere میں آ گیا۔ آپ نے ایک public matter کو جو کہ ایک crime ہے، کو کورٹ کے باہر ہی resolve کر لیا۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو قصاص و دیت آرڈیننس لاگو کرنا ہے یا معافی دینی ہے یا سزا دینی ہے تو وہ بات کورٹ میں آنی چاہیے اور کورٹ کے سامنے آپ سزا دیں یا معافی دیں۔ یہ معاملہ private sphere میں رکھنے سے حل نہیں ہوگا۔ اس طرح honour killings بڑھتی جائیں گی کیونکہ جب تک ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا یہ بڑھتا جائے گا۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ شہیرہ جلیل الباسط صاحبہ۔

Miss Shaheera Jalil Albasis: Madam Speaker, the actual points that I had in this resolution has been said and for once I agree with the Opposition. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی محمد عتیق صاحب۔

جناب محمد عتیق: شکر یہ میڈم سپیکر۔ میڈم سپیکر! میں اس میں کچھ چیزیں add کرنا چاہوں گا۔ بہر حال، یہ جو problem ہے، یہ domestic problem میں fall کرتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گواہی دینی کی باری ہوتی ہے تو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، جو eye witness ہوتے ہیں، وہ پیش نہیں ہوتے اور یہ ایک سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو جرگہ ہوتا ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے laws کی بات آتی ہے تو اس میں at least دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ایک چاہے inside سے ہو یا outside ہو بہر حال اس کا پیش ہونا لازمی ہوتا ہے اور جب وہ لوگ پیش نہیں ہوتے تو یہ پھر آپ کا domestic problem رہ جاتا ہے اور unserved رہ تا کہ آپ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کو domestic حد تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو local police station تک پہنچنا چاہیے اور اس سلسلے میں کچھ قانون سازی ہونی چاہیے۔

ایک اور بات ابھی جس طرح کچھ قانون بنے ہیں، جیسے تیزاب پھینکنے کے بارے میں ہے کہ اس میں تین سال سے آٹھ سال کی قید ہے یا دس لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا ہے۔ حکومت کی اس کوشش کو appreciate کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تین قانون بنے ہیں پچھلے چھ مہینوں میں لیکن honour killing کے بارے میں directly کوئی قانون نہیں بنا۔

ایک اور بات Amnesty International جو کہ ایک think tank ہے، کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 70% laws implementable نہیں ہیں یا اس کو strength اتنی نہیں ہے کہ وہ within 1, 2, 3 years میں اپنا کوئی فیصلہ سنا سکیں کہ اگر اس کے victims available ہیں، یا جن لوگوں نے اس کو دیکھا وہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ لہذا 1 سے 3 سال ایک حد ہونی چاہیے کسی بھی 302 کے کیس میں یا جو ارادہ قتل کے کیسز

ہوتے ہیں کہ اتنی limit گزرنے کے بعد یا اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کا بھی decision pending رہتا ہے اور لوگ پکڑے نہیں جاتے اور case dismiss کر دیا جاتا ہے۔

پھر ایسی کوئی قانون سازی لائی جائی جس میں اگر victims available نہیں ہیں لیکن اگر جس کے ساتھ ہوا ہے وہ available ہے کسی honour killing case میں تو ان کو پکڑا جا سکے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم جناب حسیب احسن صاحب۔

جناب محمد حسیب احسن: میڈم سپیکر صاحبہ! تعلیم کی کمی اور ایک fixed mentality کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں بلکہ جان بوجہ کر اس طرح کے مختلف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ مختلف جرگوں میں وکیل بن کر اور جج بن کر اس طرح کے فیصلے لے لیے جاتے ہیں لیکن یہ بھی سوچنے کا امر ہے کہ زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر غریب عوام ہی پستی ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اگر عدالت میں یہ کیس چلا جائے تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اگر ایک بھائی نے یا ایک باپ نے اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کو قتل کیا ہے تو اس کی باقی فیملی یا دوسرا افراد ان کے خلاف گواہی نہیں دیتے تاکہ پورا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ میرے خیال میں اس میں ego کا عنصر بہت زیادہ شامل ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ ہمیں اس mentality کو change کرنا ہوگا اس کے علاوہ ان کو awareness دینی ہوگی تعلیم اور media کے ذریعے۔ پھر media کے ذریعے مختلف talk shows بھی ہوتے ہیں سیاست پر اور دوسرے کئی issues پر۔ اگر پانچ لڑکیاں کل قتل ہوئی ہیں تو آج وہ ٹی وی پر اور میڈیا پر hot issue ہوگا۔ پھر ایک ہفتے بعد وہ بھی دب جائے۔ لہذا اس کو regular کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام کی تعلیم بھی دی جائے۔ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہمارا اصل مذہب اسلام ہے۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمیر نجم صاحب۔

جناب عمیر نجم: شکریہ میڈم سپیکر۔ سب سے پہلے تو میں تبریز مری صاحب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہ قرارداد لائے۔ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کی تعلیمات کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک نہایت ہی مضر عنصر ہے جو ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہی اس سلسلے میں ہمیں بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔

دوسری بات، social awareness campaign and seminars کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ چیز سکھائی جا سکے کہ کس طرح ایسے issues کو tackle کرنا چاہیے اور ہر چیز کو اپنی عنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر معاشرہ معاشرہ نہیں رہتا بلکہ وہ جہالت کا ایک گڑھ بن جاتا ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمر ریاض صاحب۔

Mr. Muhammad Umar Riaz: Thank you Madam Speaker. According to a recent statistics of Human Rights Commission of Pakistan, about 943 women were killed in the name of honour in the year 2011 and among the victims there were Christians and Hindus as well. The mistreatment of women including their rape, domestic violence, the forced marriages and the killings in the name of honour as

stated in the resolution has become a prevalent custom. As I always say that all the resolutions which have been moved are already in the Human Rights' policy statement and this issue has also been dealt with accordingly. We proposed that the jirga system should not address any issue relating to the women in any case and it should be brought within the purview of the Session Courts so that the highest level of integrity, the highest level justice may be insured for those downtrodden women of the society which have become the victims of these killings in the name of honour.

Madam Speaker, I would also like to ensure that the present flaws in the judicial system of Pakistan are need to be dealt with. In a case we should give credit to the present Government that it has passed certain pieces of legislation for the protection of the rights of the women. However, again the same thing, the problem lies with the implementation. The implementation is not according upto the mark. We have the National Commission on the status of Women, we have the Anti Sexual Harassment Act, we have Anti Acid Throwing Bill, we have legislation relating to the killing in the name of honour but still problem lies with the implementation and still we see the cases where the clapping by girls in the marriage ceremony leads to their deaths. This is something which is really very disturbing and something which should be dealt accordingly. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ محترم جناب علی رضا صاحب۔

جناب علی رضا: شکریہ میڈم سپیکر۔ غیرت کے نام پر قتل ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ سوارہ، ونی، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل، primitive society میں زیادہ ہوتا ہے لیکن چونکہ بات غیرت کی ہے، قتل تو ہم نہیں کریں گے چونکہ ہمارے نظام کو، Youth Parliament کے system کو، ہماری majority کو ایک سازش کے تحت derail کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی اس حق ----

Madam Deputy Speaker: Please stick to the Resolution.

Mr. Ali Raza: This is your prerogative Madam Speaker that you can allow me to talk about the issue.

Madam Deputy Speaker: I am not allowing you.

Mr. Ali Raza: What I saying, I am saying according to the law and I need to talk about the issue.

Madam Deputy Speaker: Please sit down. The honourable Leader of the Opposition, would you like to say something on the Resolution?

جناب فہد مظہر علی: میڈم سپیکر! کسی بھی جرم سے debar کرنے کے لیے، اسے deter کرنے کے لیے جو اس کے نتیجے میں ہونے والی سزا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی deterrence ہوتی ہے rather کہ ہم کسی ہم force میں policing کر کے اس کو enforce کریں۔ یہ writ of the Government ہوتی ہے اور اس طرح کے crimes میں honour killing اور دیرینہ دشمنی اور اس کے علاوہ بھی دو پارٹیوں کے درمیان issues linger ہو رہے ہوتے ہیں یا prevail کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس زمرے لے کر آیا جاتا ہے اس umbrella کے نیچے لایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک طریقہ کار ڈھونڈا گیا ہے جس میں قانون کے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے من کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ We are living in the modern world اور اس سے

پہلے جب ہم primitive society میں جو Blue Party کے General Secretary نے بات کی تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ before colonizing Africa, Great Britain were of the opinion that it is a dark continent کیونکہ یہاں پر society میں جو practices prevail کرتی ہیں، جو ان کی manifestations ہیں وہ ایسی orthodox ہیں جن میں burial of the child ہوتا تھا، پھر mass killings ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے rituals ہوتے تھے جن میں قربانی دی جاتی تھی بچوں کی اور عورتوں کی۔ میڈم ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں خود یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ either we want to step back or go forward? اگر ہم نے آگے جانا ہے تو اسلام بھی رواداری اور معاشرے میں انصاف کی بات کرتا ہے۔ سزاؤں کے لیے اسلام میں قاضی کی عدالتیں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ آج پاکستان پینل کوڈ میں provision ہے، civil courts بھی ہیں اور criminal courts بھی ہیں۔ لہذا اس طرح کے cases پنجانیت یا جرگے کی jurisdiction سے نکال کر civil or criminal courts کی jurisdiction میں لیا جائے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Prime Minister.

جناب محمد ہاشم عظیم (وزیر اعظم یوتھ پارلیمنٹ): شکریہ میڈم سپیکر۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس Youth Parliament کو کہ یہ ایک بہت اچھی resolution آئی ہے اور میں اس میں یہ add کرنا چاہوں گا کہ عمر ریاض صاحب جو وزیر قانون بھی ہیں نے آج ایک policy statement دی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو culprits ہیں، جو violators ہیں ان کو ہم system میں لے کر آئیں and they should be penalized اور اس کو effectively ensure کریں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سپیکر صاحبہ

that democracy is the best revenge.

جناب فہد مظہر علی: میڈم سپیکر! میں وسوخ سے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آج کے بعد یا آنے والے sessions میں کوئی non-democratic and unethical برکت اگر گرین پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے تو I will be personally liable for that. ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ no confidence لے کر آنا ہمارا Constitutional right ہے اور Opposition کو آئینے کی طرح دیکھا جائے۔ حکومت Opposition کو آئینے کی طرح دیکھے جس میں وہ اپنی تصویر دیکھے، اس میں اپنی working کو دیکھے اور کچھ certain reservations تھیں جو prevail کرتی ہیں۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Now, I put the Resolution to the House.

(The Motion was carried.)

Madam Deputy Speaker: Consequently, the Resolution is adopted. The House is adjourned to meet tomorrow at 9:30 A.M.

(The House was then adjourned to meet again on 24th June, 2012 at 9:30 P.M.)